

56. AL-WAQI'AH (BILEI KIAMAT)

Suet ke-56: 96 ayat

*Ngen madeak gen Allah da Paling Pengasiak
kulo Paling Penyayang*

1. Amen tejijai bilai kiamat.
2. Tejijai ne kiamat o coa dapet nikéh (snakal).
3. (kejijai o) merdeak (do kelopak) dan melkat(kelopok da luyen).
4. Amen bumai genucang sedahsyat - dasyatne.
5. Dan tebo-tebo ajua abis seajua - ajuane,
6. Mako ijai ba Si debu da terbang.
7. Dan udi ijai telau kelopak.
8. Dio ba kelopak kanen. Alangkah mulio ne kelopak kanen o.
9. Dan kelopak kideu. Alangkah sengsaro ne kelopak kideu-o.
10. Dan tun-tun da paling deno beimen, sib a da paling deno (masuk sergo).
11. Si-o ba tun da na-ok (ngen Allah).
12. Ade lem sergo keni'matan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾

لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾

وُدُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٥﴾

فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٦﴾

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾

فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾

13. Seelopoklai kunei tun-tun dadeno.

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

14. Dan sekelepok titik kunei tun-tun da blakangan.

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

15. Si ade neak das ran(y)ang da kunei emas ngen permata.

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾

16. Samo nguta neak das ne samo sekadep.

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ﴿١٦﴾

17. Si kenliling ngen anak-anok uai da tep uai.

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَدَّدُونَ ﴿١٧﴾

18. Ngen em(b)in gelas, cerek dan sloki (piala) isai ne minuman danemok kunei bioa da nalieak.

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

19. Si coa pening kerno ne dan coa kulo mabuk,

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ ﴿١٩﴾

20. Dan buak-buak kunei jano da si miliak.

وَفِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

21. Dan daging burung kunei jano da si lok.

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

22. Dan (neak lem sergo o) ade bidadari-bidadari da matai jeniak.

وَحُورٍ عِينٍ ﴿٢٢﴾

23. Awei mutiara da naik baik.

كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

24. Utuk bales kunei jano da bik si kemerjo.

جَزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

25. Si coa temiuk neak lem ne kecek da sio-sio dan coa kulo kecek da temim(b)oa duso.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيًا ﴿٢٥﴾

26. Akan tetapi si temiuk ucapan salam.

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

27. Dan kelopak kanen, alangkah bahagia ne kelopak kanen o. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾
28. Ade neak antaro pun bidara da coa betebok. فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾
29. Dan pun pisang da besusun -susun (buak ne). وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾
30. Dan naungan da teptang libea. وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾
31. Dan bio da cucia. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾
32. Dan buak-buak da dau. وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾
33. Da coa prai (buak-buak ne) dan coa temgeak mok ne. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾
34. Dan kasua-kasua da keboak kulo empuk. وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾
35. Sebenea ne keme cemipto si(bidadari-bidadari) ngen langsung. إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً ﴿٣٥﴾
36. Dan keme menea si semulen-semulen prawan. فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
37. Penuak cinta kulo sebayaek omor ne. عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾
38. (Keme cemipto si) utuk kelopak kanen, لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾
39. (Dio ba) sekelopklai kunei tun-tun da deno. ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾
40. Dan sekelopok lai kulo kunei tun da belakang. وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾
41. Dan kelopak kideu, apikah kelopak kideu o. وَأَصْحَابِ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابِ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

42. Lem (sikso angina da kembang panes
dan bioa da panes da gelgok,

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾

43. Dan lem naungan asep da meleu.

وَوَظَلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾

44. Coa sengok dan coa kulo
menyenangkan,

لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

45. Sebenea ne si ayok o idup bemewah-
mewah.

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾

46. Dan si terus-menerus kemerjo duso
da lai.

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

47. Dan si slalu madeak ;"janokah amen
keme matei dan ijai taneak dan
tulang blulbag, janokah sebenea ne
keme benea-benea lok kenlongon
igai?,

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾

48. Janokah bapak-bapak keme da bel o
(kenlongon kulo)?

أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ﴿٤٨﴾

49. Kadeak ba : "sebeneane tun-tun dab el
o dan tun-tun da belakanga",

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾

50. Benea-benea lok kenopoa neak watau
tentau pado bilai da kenal.

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾

51. Sudo o sebeneane udi hoi tun da
tesesat kulo ikar,

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

52. Benea-benea lok em(b)uk pun zaq-
qum,

لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ﴿٥٢﴾

53. Dan lok menuak tenei nu ngen si.

فَمَا لَعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾

54. Sudo o udi menem bioa da kembang
panes.

فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

55. Mko udi menem awei uto da kembang awus menem.

فَشْرَبُونَ شُرْبَ أَهْلِيمِ ﴿٥٥﴾

56. Do o ba hidangan utuk ne pado bilai pembalasa.

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

57. Keme bik cemipto udi, mako gentai udi coa em(b)enea (bilai klongon)?

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

58. Mako ten-ang ba ngen uku tentang nutfah da udi pancarkan.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

59. Udikah da cemipto ne atau kemekah da cemiptone?

ءَأَنْتُمْ خَلَقْتُمُوهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

60. Keme bik temtau kematian neak antaro udi dan keme agok debat coa dapat knaleak.

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾

61. Utuk gemitei udi ngen tun-tun da awei udi(lem denio)dan cemipto udi konyo (neak akhirat) lem keadaan da coa udi namen.

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

62. Dan sebeneane udi bik namen da cemipto pertama, mako gentai udi co amok pelajaran (utuk da cemipto da keduai)?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

63. Mako ten-ang ba ngen uku tentang da udi temanem?

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾

64. Udikah da midup ne atau kah Keme da midup ne?

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

65. Klau keme kemlok benea -benea keme menea si keing dan ajua; mako jihai ba udi hiran tecengang.

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

66. (Samo madeak):" sebenea ne keme benea-benea menderita rugai,

إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴿٦٦﴾

67. Bahkan keme ijai tun da coa dapet jano-jano.

بَلْ لَخُنٌّ مَّحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

68. Mako ten-ang ba ngen uku tentang bioa da udi menem.

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

69. Udikah da temu-un ne kunei em(b)un ataukah keme da temu-un ne?

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ لَخُنٌّ مُمْتَرِلُونَ ﴿٦٩﴾

70. Kalau keme kemlok paset keme menea si mesin, mako gentai udi coa besyukur?

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

71. Mako ten-ang ba ngen uku tentang opoi da udi midup (kunei gensek-gensek kiyeu).

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾

72. Udikah da menea kiyeu o atau kemekah da menea ne?

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ لَخُنٌّ مُمْتَشِثُونَ ﴿٧٢﴾

73. Keme menea opoi o utuk peringatan dan bahan da beguno utuk musyafir neak padang pasir.

لَخُنٌّ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَمَقًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾

74. Mako betasbihbah (sembut) gen Tuhannu Da paling lai.

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

75. Mako uku besupeak ngen plabai bridar ne bitang-bitang.

﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

76. Sebenea ne supeak o ade ba supeak da lai kalau udi namen,

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

77. Sebenea ne qu'ran o ade ba bacoon da kembang mulia;

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

78. Pado kitep da tepliharo (lauh mahfuzh). ﴿٧٨﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ
79. Coa gemi(d)oa si kecuali hamba-hamba da senucai. ﴿٧٩﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْأَمْطَهُرُونَ
80. Tenuun kunei Tuhan semesta alam. ﴿٨٠﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
81. Mako jaokah udi man(g)ep remeh bae qu'ran yo? ﴿٨١﴾ أَفِيهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ
82. Udi (gemitei) rezkai (da ALLAH melel) ngen ngike (ALLAH) ﴿٨٢﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ
83. Mako gentai idong nyabai sapei neak kagen, ﴿٨٣﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ
84. Padahal udi idong o kemliak, ﴿٨٤﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ
85. Dan keme lebiak paok ngen si kunei udi. Tapi udi coa kemliak, ﴿٨٥﴾ وَخُنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
86. Mako gentai amen udi coa kuaso (ngen ALLAH)? ﴿٨٦﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
87. Udi coa melek nyabai o (ngen plabai ne) Amen udi ade ba tun-tun da benea? ﴿٨٧﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
88. Amen si (tun da matei) termasuk tun da naok (ngen ALLAH), ﴿٨٨﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ
89. Mako si dapet tentram dan rezkai serto sergo kenikmatan. ﴿٨٩﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ
90. Dan amen si termasuk klopok kanen, ﴿٩٠﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
91. Mako keselamatan utuk ne kerno udi kunei klopok kanen. ﴿٩١﴾ فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

92. Dan amen si termasuk kolpok tun da ngike kulo tesesat.

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾

93. Mako si dapet hidangan bioa da gelgok.

فَنَزَّلْنَا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾

94. Dan nem(b)em neak lem nrako.

وَتَصَلِيَةٌ حَمِيمٍ ﴿٩٤﴾

95. ebenea ne (da nadeak yo) ade ba do keyakinan da benea.

إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

96. Mako betasbihba ngen (sembut) gen Tuhannu da paling lai.

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾